

سندھ ایکٹ نمبر LIV مجریہ ۲۰۱۳
SINDH ACT NO.LIV OF 2013
لیاری ڈولپمنٹ اتھارٹی (تجدید اور ترمیم) ایکٹ، ۲۰۱۳
THE LYARI DEVELOPMENT AUTHORITY
(REVIVAL AND AMENDING) ACT, 2013
فہرست (CONTENTS)

تمہید (Preamble)

دفعات (Sections)

۱. مختصر عنوان اور شروعات

Short title and commencement

۲. ۱۹۹۴ کے سندھ ایکٹ نمبر X کی تجدید

Revival of Sindh Act No. X of 1994

۳. ۱۹۹۴ کے سندھ ایکٹ نمبر X کی دفعہ کی ترمیم

Amendment of Section 2 of Sindh Act No. X. of 1994

۴. ۱۹۹۴ کے سندھ ایکٹ نمبر X کی دفعہ ۴ کی ترمیم

Amendment of Section 4 of Sindh Act No. X. 1994

۵. ۱۹۹۴ کے سندھ ایکٹ نمبر X کی دفعہ ۸ کی ترمیم

Amendment of section 8 of Sindh Act No. X of 1994

۶. ۱۹۹۶ کی دفعہ ۲۷ کی ترمیم

Amendment of section 27 of 1996.

۷. محفوظ بنانا

Saving

سندھ ایکٹ نمبر LIV مجریہ ۲۰۱۳
SINDH ACT NO.LIV OF 2013
لیاری ڈولپمنٹ اتھارٹی (تجدید اور ترمیم)
ایکٹ، ۲۰۱۳

THE LYARI DEVELOPMENT AUTHORITY (REVIVAL AND AMENDING) ACT, 2013

[۱۹ نومبر ۲۰۱۳]

ایکٹ جس کے ذریعے لیاری ڈولپمنٹ اتھارٹی سے
منسلک قانون کی تجدید اور ترمیم کی جائی گی۔

تمہید (Preamble)

جیسا کہ ہاؤسنگ انڈسٹری کو فروغ اور ترقی کو
فروغ دینے اور صوبے کی عوام کو رہائش فراہم
کرنے کے لئے یہ ضروری ہے کہ لیاری ڈولپمنٹ
ایکٹ، ۱۹۹۳ کے اس مندرجہ ذیل طرح تجدید اور
ترمیم کی جائی گی۔

مختصر عنوان اور
شروعات
Short title and
commencement

1. (1) اس ایکٹ کو لیاری ڈولپمنٹ اتھارٹی (تجدید اور
ترمیم)، ایکٹ، ۲۰۱۳ کہا جائے گا۔
(۲) یہ فوری نافذ العمل ہوگا۔

۱۹۹۴ کے سندھ ایکٹ
نمبر X کی تجدید
Revival of Sindh
Act No. X of 1994

۲. لیاری ڈولپمنٹ اتھارٹی، ایکٹ، ۱۹۹۳، جولائی
۲۰۰۲ کے پہلے دن سے اس طرح تجدید و ترمیم
سمجھا جائے گا جیسا وہ کبھی بھی تبدیل یا تجدید نہیں
گیا ہے اور اس کے بعد اس کو وہ ہی ایکٹ کہا جائے
گا:

۱۹۹۴ کے سندھ ایکٹ
نمبر X کی دفعہ ۲ کی
ترمیم
Amendment of
Section 2 of Sindh
Act No. X. of 1994

۳. ایکٹ کی دفعہ ۲ کی شق (f) کے بعد یہ نئی شق شامل
کی جائے گی۔

۱۹۹۴ کے سندھ ایکٹ
نمبر X کی دفعہ ۴ کی
ترمیم
Amendment of
Section 4 of Sindh
Act No. X. 1994

”(ff) ”کنسالیڈیشن آف لینڈ“ سے مراد ہے اسکیم
کے مقاصد کے لئے اسکیم کے پلاٹوں کی ادلہ بدلی یا
کسی اور طریقے سے مطابقت میں لے آنا۔

۴. دفعہ ۴ کی ذیلی دفعہ (۱) کے لئے مندرجہ ذیل نعم
البدل ہوگا:

”(1) اتھارٹی کی تشکیل: اتھارٹی مشتمل ہوگی:

(a) لوکل گورنمنٹ، پبلک انجینئرنگ، چیئرمین

		رورل ڈولپمنٹ ہاؤسنگ، سندھ کا وزیر
	میمبر	(b) سرکار کے طرف سے نامزد کئے گئے صوبائی اسمبلی کا ایک مقامی میمبر
۱۹۹۴ کے سندھ ایکٹ نمبر X کی دفعہ ۸ کی ترمیم	میمبر	(c) لوکل گورنمنٹ، پبلک انجینئرنگ، رورل ڈولپمنٹ ہاؤسنگ، سندھ کا سیکریٹری
Amendment of section 8 of Sindh Act No. X of 1994	میمبر	(d) کراچی کا کمشنر
	میمبر	(e) کراچی واٹر اینڈ سیوریج بورڈ کا مینیجنگ ڈائریکٹر
۱۹۹۶ کی دفعہ ۲۷ کی ترمیم	میمبر/سیکریٹری جنرل	(f) لیاری ڈولپمنٹ اتھارٹی کا ڈائریکٹر
Amendment of section 27 of 1996.	میمبر	(g) سرکار کے طرف سے نامزد کئے گئے ۲ افراد ایک ٹیکنوکریٹ اور ایک سول سوسائٹی۔

محفوظ بنانا
Saving

۵. اس ایکٹ کی دفعہ ۸ کی ذیلی دفعہ (1) کی شق (iii) کے بعد یہ نئی شق شامل کی جائے گی:
“(ii-a) کسی زمین کو اسی طرح مربوط کرنا جیسا قواعد میں بیان کیا گیا ہو”۔

۶. دفعہ ۲۸ کی ذیلی دفعہ (۲) میں الفاظ ”حیدرآباد ڈولپمنٹ اتھارٹی ایکٹ، ۱۹۷۶ کے تحت زمین حاصل کرنے والے منسلک گنجائشیں سے اتفاق کرنا“ کی جگہ پر ”اتھارٹی کے طرف سے ”نعم البدل“ بنایا جائے گا۔

۷. ۲۰۰۲ کے جولائی کی پہلی تاریخ اور اس ایکٹ کی نافذ ہونے (دونوں دن کے ساتھ) کئے گئے سارے احکام، کی گئی کاروائیاں، اٹھائے گئے اقدام پر وہ کسی کورٹ کے خلاف نہ ہو تو پھر سمجھا جائے گا کہ وہ لیاری ڈولپمنٹ اتھارٹی ایکٹ، ۱۹۹۳ کے مطابق درست اقدام اٹھائے گئے ہیں اور اس پر کسی کورٹ یا

فورم پر کسی بھی بنیاد پر سوال نہیں اٹھایا جائے گا۔

نوٹ: ایکٹ کا مذکورہ ترجمہ عام افراد کی واقفیت کے لیے ہے، جو کورٹ میں استعمال نہیں کیا جا سکتا۔